



سوال

(705) کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسے ناپسند کرے۔۔۔

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا تقرت الہی کے حصول کی نیت سے مباح چیزوں کو ترک کرنا بھی بدعات میں شمار ہوگا یا نہیں؟ بعض لوگ اس کی بڑی پابن دی رتے ہیں اور اسے زہد و تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ بعض مباح اشیاء کو بھی کسی دلیل و برہان کے بغیر حرام یا مکروہ قرار دیتے ہیں اور ان سے نہ صرف خود اجتناب کرتے ہیں بلکہ دوسروں سے بھی ایسا نہ کرنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ فیکم

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو یا کسی ایسی چیز کو ناپسند کرے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہ کیا ہو کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا قُضِيَ الْكُذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرِ وَأَعْلَىٰ اللَّهُ الْكُذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ ۱۱۶ ... سورة النحل

”اور یوں جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ حلال ہے اور یہ حرام ہے سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی بنتے ہیں۔“

اور فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳ ... سورة الاعراف

”کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کو باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، جس کو اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتوں کو جو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کہ اس کی طرف علم کے بغیر باتیں منسوب کی جائیں، شرک سے بھی بڑا درجہ کا گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے نتیجہ میں برپا ہونے والا فساد بہت بڑا ہوتا ہے۔ سورة البقرة کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی حکم قرار دیا دیتے ہوئے فرمایا ہے:

